

Home-Economics - 9th Class Home Economics Urdu Medium Chapter 5 Preparation

Q1. انسانی نشو نما پر کتنے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔

Ans 1: انسانی نشو نما پر دو اہم عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ 1. وراثت 2. ماحول

Q2. نشو نما کے سلسلے میں کون سے امور اہمیت کے حامل ہیں۔

Ans 1: جسم کے مختلف اعضاء اور حصوں کی نشو نما کی رفتار اپنی اپنی ہوتی ہے۔ 2. ہر عضو کی نشو نما کی اپنی اپنی علامتیں اور تکمیلی حد ہوتی ہے۔ 3. ہر بچے 1. جسم کے مختلف اعضاء اور حصوں کی نشو نما کی رفتار منفرد ہوتی ہے

Q3. فرائیڈ اور ایرکسن کے مطابق نشو نما کا دور حساس اور نازک کیسے ہوتا ہے؟

Ans 1: سائنسی تحقیق کے مطابق زندگی کے کچھ ادوار زیادہ حساس اور نازک ہوتے ہیں۔ فرائیڈ نے ثابت کیا کہ بچپن میں ہی معلوم ہوجاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ ایرکسن کے مطابق بچہ جو کچھ سیکھتا ہے اس کا انحصار اس کی مختلف ضروریات پر ہوتا ہے۔ بچے کی شخصیت میں دو سے پانچ سال کی عمر کا دور بہت اہمیت رکھتا ہے۔

Q4. انسانی نشو نما کے پہلو کون سے ہیں؟ نام لکھیں۔

Ans 1: انسانی نشو نما کے دو پہلو ہیں۔ 1. نشو نما کی سمت سر سے پاؤں کی جانب۔ 2. نشو نما کی سمت درمیان سے باہر کی جانب۔

Q5. نشو نما کی امتیازی خصوصیت کیسی ہوتی ہے؟

Ans 1: جسم کے ہر عضو اور حصے کی نشو نما کی رفتار اپنی اپنی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں نشو نما سادہ سے پیچیدہ کی جانب بڑھتی ہے۔ مثلاً جسمانی نشو نما میں بچہ اپنے بازو ہلاتا ہے اور بعد میں انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اپنا کھلونا پکڑتا ہے۔ چھوٹے بچے چلنا سیکھتے ہیں اور پھر اچھلنا کودنا اور سیڑھیاں چڑھنا

Q6. نشو نما کی سمت درمیان سے باہر کی جانب کیسے ہوتی ہے؟

Ans 1: اس میں جسمانی نشو نما کی سمت کا تعین ہوتا ہے۔ حرکات کی پختگی جسم کے درمیانی یا مرکزی حصے سے باہر اعضاء کی جانب ہوتی ہے۔ پہلے بچہ اپنے دھڑ پر قابو پاتا ہے۔ اپنے پائوں ہلاتا ہے۔ پھر ہاتھ اور آخر میں انگلیوں پر مہارت حاصل کرتا ہے۔ اس طرح شیرخوار بچہ پہلے اپنی ٹانگوں پر پھر پاؤں پر اور آخر میں انگلیوں کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔

Q7. نشو نما کی تعریف کریں۔

Ans 1: نشو نما دو الفاظ نشو اور نمو کا مجموعہ ہے جس کو کبھی بھی جدا نہیں کیا جاسکتا۔ نشو : کی اصطلاح افعال کی تبدیلی سے متعلق ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی ایسی تبدیلیاں ہیں جن کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمو: کی اصطلاح روایتی طور پر جسمانی اور عضویاتی تبدیلیوں سے متعلق ہے۔ جو عمر کے مختلف ادوار میں رونما ہوتی ہے اور زندگی کے ابتدائی سالوں سے نوبلوغت کے دور تک ظہور پزیر ہوتی ہے۔

Q8. درمیانی بچپن اور نوبلوغت کے دور کے کوئی سے 2،2 اہلیتی کام بیان کریں۔

Ans 1: درمیانی بچپن: 1. جس کے لحاظ سے متوقع کردار کو سمجھنا ، جسمانی تبدیلیوں سے آگاہ ہونا. 2. رابطہ پیدا کرنا خود اعتمادی سیکھنا

Ans 2: نوبلوغت کے دور کے اہلیتی کام. 1. زندگی کے مسائل اور والدین پر انحصاری سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا. 2. زندگی کے اچھے برے کی تمیز کرنا، بری عادات سے بچنا ، اپنے فیصلے خود کرنا

Q9. ماحول جذباتی نشوونما میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟

Ans 1: ماحول نہ صرف جذبات پر قابو پانے بلکہ جذبات کی بھی تربیت کرتا ہے. بچوں میں شعور سمجھ بوجھ کی عادت بنانا تاکہ وہ مناسب فیصلے کرنے کے قابل ہو .سکین اور معاشرے میں پسندیدہ شخصیت بن سکیں

Q10. انسانی نشوونما کے اصول کیا ہیں؟

Ans 1: یہ اصول درج ذیل ہیں. 1. نشوونما ایک امتیازی خصوصیت ہوتی ہے 2. نشوونما ایک ترتیب وار سلسلہ ہے. 3. نشوونما کی رفتار مختلف ہوتی ہے. 4. نشوونما کا ہر دور حساس اور نازک ہوتا ہے